



## سوال

(478) فرقہ تيجانیہ بہت بڑا بدعتی فرقہ ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

طریقہ تيجانیہ کے متعلق اور حالت بیداری میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت کے متعلق آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

فرقہ تيجانیہ کفر گمراہی اور دین میں غیر شرعی بدعتیں ایجاد کرنے میں سب فرقوں سے بڑھ کر ہے۔ اس سے پہلے بھی مجلس افتاء سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا اور مجلس نے ان کی بدعتوں اور گمراہیوں کے متعلق ایسا مقالہ لکھا تھا!  
!وہ مقالہ آئندہ صفحات میں پیش خدمت ہے۔

اور بعض صوفیوں کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے کہ انہیں حالت بیداری میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی زیارت صرف قیامت کے دن ہوگی جب سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ:

(أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

”قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔“

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام



## محدث فتویٰ